




# Directors Report

For the Quarter  
ended September  
30, 2022



## میںجمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹرز کی رپورٹ

کمپنی کی انتظامی فیصل ایسٹ مینجمنٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹران کے زیر انتظام فنڈز کے آپریشنز کے ساتھ اختصاری عبوری مالیاتی گوشوارے برائے سہ ماہی مدت مختصر 30 ستمبر 2022 کو پیش کرتے ہوئے اظہار مسرت کرتی ہے۔

ایکویٹی/ایسٹ ایلیکشن فنڈز	فنڈز کا فنڈ
☆ فیصل اسٹاک فنڈ	☆ فیصل شریعہ پلاننگ فنڈ
☆ فیصل ایسٹ ایلیکشن فنڈ	- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان
☆ فیصل اسلامی ڈیڈیکینڈ ایکویٹی فنڈ	- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان IX
☆ فیصل فنانشل ویلیو فنڈ	☆ فیصل اسلامک فنانشل پلاننگ فنڈ
☆ فیصل اسلامک اسٹاک فنڈ	- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان III
☆ فیصل اسلامک ایسٹ ایلیکشن فنڈ	- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان IV
☆ کلسڈ انکم فنڈز	- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان V
☆ فیصل انکم اور گروتھ فنڈ	- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان VI
☆ فیصل سیونگزر گروتھ فنڈ	- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان VII
☆ فیصل اسلامک سیونگزر گروتھ فنڈ	- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان VIII
☆ فیصل منی مارکیٹ فنڈ	☆ فیصل اسلامک فنانشل پلاننگ فنڈ II
☆ فیصل فنانشل سکلر مواقع فنڈ	- فیصل شریعہ کیپیٹل پریزرویشن پلان X
☆ فیصل ایم ٹی ایس فنڈ	
☆ فیصل آمدنی فنڈ	
☆ فیصل گورنمنٹ سیورٹیز فنڈ	
☆ فیصل اسلامک کیش فنڈ	
☆ فیصل کیش فنڈ	
☆ فیصل اسٹیبل انکم فنڈ	
- فیصل اسٹیبل انکم فنڈ I	
☆ فیصل اسٹیبل سیونگزر فنڈ	
- فیصل اسٹیبل سیونگزر پلان I	
- فیصل اسٹیبل سیونگزر پلان I	

## رضا کارانہ پنشن سکیم

- فیصل اسلامک پنشن فنڈ
- قرض ذیلی فنڈ
- ایکویٹی سب فنڈ
- منی مارکیٹ سب فنڈ

## ☆ فیصل پنشن فنڈ

- قرض ذیلی فنڈ
- ایکویٹی سب فنڈ
- منی مارکیٹ سب فنڈ

## اقتصادی جائزہ:

ملک کے بیرونی کھاتے نے 12 ایم ایف وای 23 میں سال بہ سال (وای او وای) کی بنیاد پر ایک تیز بہتری پوسٹ کی کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ (سی اے ڈی) اسی مدت - پچھلے سال (ایس پی ایل وای) میں پلین امریکی ڈالر 2.377 بہ مقابلہ پلین امریکی ڈالر 1.922 تک گر گیا۔ برآمدات میں 11 فیصد سالانہ اضافے کی پشت پر 19 فیصد کمی جو مالیاتی سختی کے درمیان بڑے برآمدی مقامات میں سست روی کے آثار کے باوجود گلدار رہی ہے۔ مزید برآں، درآمدات کے بل میں سالانہ بنیادوں پر 2 فیصد کمی ہوئی جس سے مجموعی تجارتی خسارہ 11 فیصد کم ہوا آگے بڑھتے ہوئے، ہم نے مالی سال 23 میں سی اے ڈی میں سالانہ بنیادوں پر سخت کٹوتیوں کی توقع کی تھی کیونکہ پابندیوں کے اقدامات اور سخت مالیاتی اور مالیاتی پالیسی کے درمیان درآمدات میں کمی کی وجہ سے، ملک میں سیلاب نے زراعت اور مویشیوں کو بڑے پیمانے پر تباہی پھادی ہے جس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر زیادہ درآمدی بل (کھانے کی اشیاء) اور کم برآمدات (ٹیکسٹائل، چاول اور چینی) جس کے نتیجے میں ہمارے تخمینوں کو اٹھانا خطرہ ہے۔

سی اے ڈی میں کمی کے باوجود، ملک کے زرمبادلہ کے ذخائر قرضوں کی ادائیگیوں کی وجہ سے 1 کیو ایف وای 23 میں سرمایہ سے زیادہ سرمایہ (کیو او کیو) کی بنیاد پر 5.3 فیصد کم ہو کر پلین امریکی ڈالر 13.59 ہو گئے۔ ستمبر کے مہینے کے دوران، ملک میں بھاری سیلاب کے بعد فصلوں کی تباہی کی وجہ سے خوراک کی زیادہ درآمدات کی توقعات کے درمیان پاکستانی روپے کی قدر 9.6 فیصد کم ہو کر پاکستانی روپے 239.71 / امریکی ڈالر کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ تاہم، پاکستانی روپے نے سرمایہ کے اختتام تک پاکستانی روپے 228.45 / امریکی ڈالر پر بند ہونے کے لیے 4.43 فیصد کی تیزی سے ریکوری دیکھی کیونکہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار ملک واپس آئے اور ملک کے وزیر خزانہ کے طور پر حلف اٹھایا۔ مجموعی طور پر، 1 کیو ایف وای 23 میں پاکستانی روپے میں 11.5 فیصد کمی واقع ہوئی۔

اعلیٰ خوراک، نقل و حمل، اور توانائی اور ایندھن کے انڈیکس کی وجہ سے 1 کیو ایف وای 23 میں ہیڈ لائن افراط زر سال 22 کی 4 کیو ایف وای 22 میں 25.1 فیصد بہ مقابلہ 16.15 فیصد (1 کیو ایف وای 22 میں 8.58 فیصد) تک بڑھتا چلا گیا۔ تاہم، ماہ بہ ماہ (ایم او ایم) کی بنیاد پر، سائٹوں میں پمپوں میں پہلی بار مہنگائی میں کمی آئی ہے (ستمبر 22 کے مہینے کے لیے ہیڈ لائن افراط زر سال 22 میں 27.3 فیصد کے مقابلے میں سالانہ بنیادوں پر 23.2 فیصد رہی)۔ اس ایم او ایم کی وجہ سے ماہ کے دوران بجلی کے چارجز میں 65 فیصد ایم او ایم کمی ہے جس کی وجہ سے ہاؤسنگ، پانی، بجلی اور دیگر انڈیکسز میں 17.7 فیصد ایم او ایم کمی واقع ہوئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اکتوبر میں ہونے والی اپنی مائٹری پالیسی کمیٹی (ایم پی سی) کے اجلاس میں مالی سال 23 کے لیے افراط زر کی شرح 18-20 فیصد کی اس سے پہلے کی حد سے زیادہ ہونے کی ہدایت کی ہے۔

1 کیو ایف وای 23 میں، مجموعی ٹیکس وصولی 1,635 ملین پاکستانی روپے رہی، جو سالانہ بنیادوں پر 17 فیصد زیادہ تھی، اور پلین پاکستانی روپے 1,609 کے سرمایہ ہدف کو عبور

کرگئی۔ آگے بڑھتے ہوئے، مالی استحکام کے لیے کیے گئے اقدامات کے باوجود، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی ہموار سہالی پر اخراجات کے نتیجے میں مالیاتی خسارہ بجٹ کے تخمینے سے زیادہ ہو سکتا ہے۔

ایلیکٹری مارکیٹ کا جائزہ:

کے ایس ای-100 انڈیکس 1 کیو ایف وای 23 میں 0.99 فیصد کی کمی سے 41,129 پوائنٹس پر آگیا، 412 پوائنٹس کی کمی۔ 19 اہم سی وای 22 میں، کمی 7.78 فیصد (-3,467 پوائنٹس) پر رہی۔ توسیعی فنڈ سہولت (ای ایف ایف) کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول کے معاہدے کی تکمیل کے ساتھ سہ ماہی کا آغاز مثبت نوٹ پر ہوا۔ تاہم، مرکزی بینک کی طرف سے پالیسی ریٹ میں 15 فیصد تک اضافہ، زرمبادلہ کے گرتے ہوئے ذخائر اور سیاسی غیر یقینی صورتحال کے درمیان امریکہ ڈالر کے مقابلے پاکستانی روپے کی قدر میں کمی، درآمدی پابندیوں کی وجہ سے کارپوریٹس کی طرف سے پیداوار بند ہونے اور افراط زر کی بلند شرح نے اسٹاک مارکیٹ کو دباؤ میں رکھا۔ بعد میں، آئی ایم ایف پروگرام کے احیاء کی وجہ سے 1.17 بلین امریکی ڈالر کے قرض کی فراہمی کے ساتھ ساتھ بیرونی کھاتوں میں بہتری کی وجہ سے جذبات میں بہتری آئی، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سیاسی انتشار کے خدشات کو دور کیا۔

بیبلوں کی دوڑ کو جلد ہی ملک میں طویل مومن سون میزن کے ساتھ ساتھ سیلاب سے روک دیا گیا کیونکہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہی کا تخمینہ 30 بلین امریکی ڈالر تھا کیونکہ ملک کو گزشتہ 30 سالوں میں سیلاب کی بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ حکام کا اندازہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے 800,000 ہیکٹر سے زیادہ کھیتی باڑی کا ماحولیا ہو گیا ہے۔ پاکستان چاول اور کپاس کا بڑا پیدا کرنے والا ملک ہے اور دونوں فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ موسلا دھار بارشوں اور سیلاب سے گندم کی اگلی ہوائی کے موسم کو بھی خطرہ لاحق ہے، ایسے وقت میں جب عالمی سطح پر گندم کی سپلائی پہلے ہی سخت ہے۔ نتیجے کے طور پر، توقع ہے کہ درآمدی بل ملک کی غذائی تحفظ سے نمٹنے کے لیے بلند رہے گا۔ حکومت نے مالی سال 23 کے لیے اپنی شرح نمو کی پیش گوئی کو بجٹ کے تخمینے میں پیش کردہ 5 فیصد سے بڑھا کر 2 فیصد کر دیا ہے۔

سبکدوش ہونے والی سہ ماہی کے دوران، غیر ملکی 16.70 بلین امریکی ڈالر کی خالص آمد کے ساتھ خالص خریدار رہے جس کی بڑی خریداری ٹیکنالوجی، دیگر، اور تیل اور گیس کی تلاش کے شعبے میں مرکوز تھی۔ مقامی محاذ پر، افراد (امریکی ڈالر 22.97)، دیگر (بلین امریکی ڈالر 32.10)، اور بینک (بلین امریکی ڈالر 9.23) خالص خریدار رہے جبکہ انشورنس کمپنیاں (بلین امریکی ڈالر 41.44) اور میچل فنڈز (بلین امریکی ڈالر 35.22) خالص فروخت کنندگان کے طور پر رہے۔ سبکدوش ہونے والی سہ ماہی کے دوران، غیر ملکی 16.70 بلین امریکی ڈالر کی خالص آمد کے ساتھ خالص خریدار رہے جس کی بڑی خریداری ٹیکنالوجی، دیگر، اور تیل اور گیس کی تلاش کے شعبے میں مرکوز تھی۔ مقامی محاذ پر، افراد (بلین امریکی ڈالر 22.97)، دیگر (بلین امریکی ڈالر 32.10)، اور بینک (بلین امریکی ڈالر 9.23) خالص خریدار رہے جبکہ انشورنس کمپنیاں (بلین امریکی ڈالر 41.44) اور میچل فنڈز (بلین امریکی ڈالر 35.22) خالص فروخت کنندگان کے طور پر رہے۔

سبکدوش کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی (763 پوائنٹس)، سہنسٹ (254 پوائنٹس)، اور پاور جنریشن (63 پوائنٹس) 1 کیو ایف وای 23 میں اہم مثبت شرکاء تھے جبکہ فٹیلارز (-404 پوائنٹس)، ہتھرق (-296 پوائنٹس)، اور کمرشل بینک (-268 پوائنٹس) بڑے منفی شرکاء تھے۔

آگے بڑھتے ہوئے، مارکیٹ کی رفتار ملک میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی ہموار اور تیزی سے، سہالی، مہنگائی کے دباؤ، بین الاقوامی اجناس کی قیمتوں، اور ملک میں سیاسی استحکام سے ہوگی۔

منفی مارکیٹ کا جائزہ:

1 کیو ایف وای 23 کے دوران، حکومت نے بالترتیب ٹی بلز اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز سے پاکستانی روپے ٹرن 4.79 اور بلین پاکستانی روپے 517 قرض لیا۔ 21 ستمبر

2022 کو کیو ایف وای 23 میں منصفہ آخری نیلای میں ٹی بلز کی اوسط پیداوار بالترتیب 3 ایم، 6 ایم اور 12 ایم نمبرز کے لیے بالترتیب 15.97 فیصد، 15.95 فیصد اور 15.99 فیصد، بمقابلہ 15.08 فیصد اور 9144 فیصد 29 جون 2022 کو ہونے والی نیلای میں 15 فیصد ستمبر 2022 کو کیو ایف وای 23 میں ہونے والی پچھلی نیلای میں پی آئی بی ایس کی وزنی اوسط پیداوار بالترتیب 13.89 فیصد، 13.31 فیصد، اور 12.92 فیصد وای آ، 10 وای آر، 5 وای آر کے لیے کم ہوئی۔ 23 جون 2022 کو ہونے والی نیلای میں بمقابلہ 13.96 فیصد، 13.07 فیصد اور 13.03 فیصد۔ افراط زر کے دباؤ کی وجہ سے، مرکز کی بینک نے 22 جولائی میں منصفہ اپنے پی سی ای میں پالیسی ریٹ میں مزید 1.25 فیصد سے 15 فیصد اضافہ کر دیا تاکہ زیادہ گرمی کو مزید ٹھنڈا کیا جاسکے۔ معیشت اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر مشتمل ہے۔ تاہم، 22 اگست میں منصفہ ایم پی سی میں پالیسی ریٹ کو کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی کیونکہ معیشت میں مجموعی طلب معتدل ہونے لگی تھی اور بیرونی کھانوں میں بہتری کے آثار بھی تھے۔ 30 ستمبر 2022 تک، قلیل مدت میں مہنگائی کے اعلیٰ تخمینوں کی وجہ سے مختصر مدت کی پیداوار طویل مدت سے زیادہ برقرار ہے۔

#### ایکویٹی اور ایسٹ ایلیویشن فنڈز پر فارمنس

##### فیصل ایسٹ ایلیویشن فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وای ٹی ڈی کی بنیاد پر 0.11 فیصد کے شیئ مارک ریٹرن کے مقابلے میں 6.40% کی واپسی پوسٹ کی۔ مدت کے اختتام پر، ایکویٹی میں فنڈ کی نمائش 70.25 فیصد تھی اور اس نے گلاس اینڈ سیر اسس اور اسٹل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں پر کے ایس سی-100 کے مقابلے میں زیادہ وزن کا موقف اختیار کیا تھا جبکہ سینٹ اور فریٹلائزر کمپنیوں پر کم وزن کا موقف اختیار کیا گیا تھا۔

##### فیصل اسٹاک فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وای ٹی ڈی کی بنیاد پر 0.99 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 0.51 فیصد کی مجموعی واپسی پوسٹ کی۔ مدت کے اختتام پر، ایکویٹی میں فنڈ کی نمائش 84.09 فیصد تھی۔ اس عرصے کے دوران کے ایس سی-100 کے مقابلے میں زیادہ وزن کا موقف انشورنس، جینا لوجی اور کیوینٹیکیشن اور گلاس اینڈ سیر اسس پر لیا گیا جبکہ سٹیکس اور اسٹل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیوں پر کم وزن کا موقف اختیار کیا گیا۔

##### فیصل اسلامک اسٹاک فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وای ٹی ڈی کی بنیاد پر 1.90 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 0.77 فیصد کی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ کی نمائش ایکویٹی میں 75.93 فیصد اور ریش میں 19.85 فیصد تھی۔ اس مدت کے دوران تیل اور گیس کی تلاش کمپنیوں، کمرشل بینکیوں اور ٹیکنالوجی اور کیوینٹیکیشن کے شعبوں پر کے ایم آئی-30 کے مقابلے میں زیادہ وزن کا موقف اختیار کیا گیا جبکہ فریٹلائزر کمپنیوں، سٹیکس اور پاور جنریشن اور ڈسٹری بیوٹن پر کم وزن کا موقف اختیار کیا گیا۔

##### فیصل اسلامک ڈیڈ ویلٹیٹیو ایکویٹی فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے 1.90 فیصد کے شیئ مارک ریٹرن کے مقابلے میں 3.61 فیصد کی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ کی نمائش 94.39 فیصد ایکویٹی میں تھی اور باقی نقد اور دیگر وصولیوں میں رہا۔ اس عرصے کے دوران ٹیکنالوجی اور کیوینٹیکیشن، کمرشل بینکیوں اور پاور اینڈ ڈسٹری بیوٹن پر کے ایم آئی-30 کی نسبت زیادہ وزن کا موقف اختیار کیا گیا جبکہ سینٹ اور فریٹلائزر کمپنیوں پر کم وزن کا موقف اختیار کیا گیا۔

##### فیصل فنانشل ویلٹیٹیو فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وای ٹی ڈی کی بنیاد پر 1.29 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 3.86 فیصد کی واپسی پوسٹ کی۔ مدت کے اختتام پر ٹی ایف سی ایس میں فنڈ کی نمائش 53.75 فیصد تھی، 30.72 فیصد نقد اور 9.09 فیصد ٹی بلز میں تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے، آپ کا فنڈ مسابقتی منافع فراہم کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے راستے تلاش کرتا رہے گا۔

##### فیصل اسلامک ایسٹ ایلیویشن فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وای ٹی ڈی کی بنیاد پر 1.16 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 3.05 فیصد کی مطلق واپسی پوسٹ کی۔ مدت کے اختتام پر، اجارہ سکوٹ اور سکوٹ میں نمائش بالترتیب 10.75 فیصد اور 64.41 فیصد رہی، جب کہ کیش پوزیشن 25.71 فیصد سے گھٹ کر 22.21 فیصد رہ گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے، آپ کا فنڈ مسابقتی منافع فراہم کرنے کے لیے اسلامی سرمایہ کاری کے راستے تلاش کرتا رہے گا۔

### فصلہ انکم فنڈز کی کارکردگی

#### فیصل مٹی مارکیٹ فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے 14.61 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلہ میں 14.32 فیصد کا سالانہ منافع حاصل کیا۔ مدت کے اختتام پر، نقد رقم مختص 47.52 فیصد رہی جب کہ ٹی، بل، شارٹ ٹرم سکوک اور کمرشل پیپر میں نمائش بالترتیب 19.97 فیصد، 20.13 فیصد اور 9.94 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مینجمنٹ مجاز سرمایہ کاری کے اندر مختلف راستے تلاش کرنا جاری رکھے گا۔

#### فیصل حلال آمدنی فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وائی ٹی ڈی کی بنیاد پر 5.50 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلہ میں 14.47 فیصد کا سالانہ منافع حاصل کیا۔ مدت کے اختتام پر، نقد رقم مختص 70.29 فیصد رہی جبکہ سکوک کی مختصر مدت میں نمائش 27.35 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مینجمنٹ اسلامی بینکوں کے ساتھ روزانہ پروڈکٹ کی بہتر شرح/ٹی ڈی آر پلیسمنٹ کے لیے گفت و شنید کرے گی اور مجاز سرمایہ کاری کے اندر مختلف راستوں کی تلاش جاری رکھے گی۔

#### فیصل اسلاک کیش فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے 5.50 فیصد کے معیارات کے مقابلہ میں 14.84 فیصد کی واپسی حاصل کی۔ بینک کے ساتھ کیش ایبلویٹیشن 71.50 فیصد پر برقرار ہے جبکہ سکوک کی مختصر مدت میں ایکسیوز 26.69 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مینجمنٹ اسلامی بینکوں کے ساتھ ایک بہتر یومیہ پروڈکٹ ریٹ/ٹی ڈی آر پلیسمنٹ کے لیے گفت و شنید میں سب سے اہم سرمایہ کاری کے اندر مختلف راستے تلاش کرنا جاری رکھے گا۔

#### فیصل فنانشل سیکر موافق فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے 15.88 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلہ میں 15.59 فیصد کا سالانہ منافع حاصل کیا۔ مدت کے اختتام تک، فنڈ مینجمنٹ نقد رقم میں لیکویڈٹی کو تقریباً 98.66 فیصد تک برقرار رکھا۔ جبکہ ٹی ایف/اسکوک میں نمائش 0.11 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، ہم توقع کرتے ہیں کہ روزانہ مصنوعات کی مسلسل اعلیٰ پیداوار کی شرح کی وجہ سے منافع مسابقتی رہے گا۔

#### فیصل ایم ٹی ایس فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے 15.88 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلہ میں 15.38 فیصد کا سالانہ منافع حاصل کیا۔ فنڈ مینجمنٹ نے بڑھتی ہوئی پیداوار کی وجہ سے نقد رقم کو کم کرتے ہوئے ایم ٹی ایس کی حمایت یافتہ/گارنٹی شدہ سیکورٹیز اور ٹی بلز میں نمائش میں اضافہ کیا۔ نقد رقم مختص 4.15 فیصد رہی جبکہ ٹی بلز فنڈ کے کل اثاثوں 5.59 فیصد نمائندگی کرتے ہیں۔ ایم ٹی ایس میں نمائش 59.24 فیصد سے بڑھ کر 88.61 فیصد ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے فنڈ مینجمنٹ مارکیٹ کے حالات کے لحاظ سے ایم ٹی ایس میں نمائش کو برقرار رکھے گی۔

#### فیصل گورنمنٹ سیکورٹیز فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے 15.67 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلہ میں 12.46 فیصد کا سالانہ منافع حاصل کیا۔ مدت کے اختتام پر، ٹی بلز اور نقدی کی نمائش بالترتیب 9.31 فیصد اور 89.32 فیصد تک برقرار رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ ایک فعال سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے ساتھ پیداوار کو بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کے دیگر منظور شدہ راستے تلاش کرے گا۔

#### فیصل سیونگ گروتھ فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے 15.88 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلہ میں 13.33 فیصد کا سالانہ منافع حاصل کیا۔ استحکام کی حکمت عملی کے اقدام کے طور پر، فنڈ مینجمنٹ نے کیش پوزیشن 42.84 فیصد پر رکھا، جب کہ اس مدت کے لیے ٹی ایف سی/سکوک اور ٹی بلز میں نمائش بالترتیب 22.22 فیصد اور 29.56 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ منافع بخش سرمایہ کاری کی راہوں میں نمائش کو جاری رکھے گا اور ایک فعال تجارتی حکمت عملی کے ساتھ پیداوار میں اضافہ کرے گا۔

#### فیصل اسلاک سیکورٹیز گروتھ فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے 4.66 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلہ میں 12.30 فیصد کا سالانہ منافع حاصل کیا۔ مدت کے اختتام تک، جی او بی اجارہ سکوک اور ٹی ایف سی ایس/سکوک میں نمائش بالترتیب 34.02 فیصد اور 33.81 فیصد رہی جبکہ دیگر بینک پلیسمنٹ میں ایکسیوز 16.63 فیصد رہی۔ فنڈ مینجمنٹ نے نقد میں پوزیشن کو 20.36 فیصد

سے کم کر کے 12.68 فیصد کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے، آپ کا فنڈ مسابقتی منافع فراہم کرنے کے لیے اسلامی سرمایہ کاری کے راستے تلاش کرتا رہے گا۔

#### فیصل انکم اینڈ گروتھ فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے اپنے 16.22 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 15.60 فیصد کا سالانہ منافع حاصل کیا۔ مدت کے اختتام تک، کیش ایلیکشن 92.46 فیصد پر برقرار رہی جب کہ ستمبر 2022 کے مہینے کے لیے ٹی ایف سی/سلوک میں ایکسپوزر 5.92 فیصد رہا۔ آگے بڑھتے ہوئے، آپ کا فنڈ مسابقتی نیکرو اسٹاک منظر نامے میں زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔

#### فیصل کیش فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے 14.61 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 12.69 فیصد کا سالانہ منافع حاصل کیا۔ مدت کے اختتام تک، فنڈ مینیجر نے کیش پوزیشن میں نمائندگی کو 25.37 فیصد سے کم کر کے 0.69 فیصد کر دیا، جب کہ کمرشل پیپر اور ایس ٹی سلوک میں نمائندگی ہائپر 41.78 فیصد اور 53.87 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ منجمنٹ تعیناتی کے لیے دیگر سرمایہ کاری کے راستے تلاش کرے گا۔

#### فیصل پیپلز سیورنگ فنڈ - فیصل پیپلز سیورنگ پلان I

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے 1.23 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 3.99 فیصد کی مجموعی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ نے بینک پوزیشنز میں 97.09 فیصد عکس سرمایہ کاری کی ہے۔ آگے بڑھنے؛ آپ کا فنڈ ملک کی اقتصادی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کے دیگر مواقعوں میں نمائندگی کرے گا۔

#### فیصل پیپلز سیورنگ فنڈ - فیصل پیپلز سیورنگ پلان II

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے 0.45 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 2.89 فیصد کی مجموعی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ نے بینک پوزیشنز میں 97.50 فیصد کی سرمایہ کاری کی ہے۔ آگے بڑھنے؛ آپ کا فنڈ ملک کی اقتصادی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کے دیگر مواقعوں میں نمائندگی کرے گا۔

#### فیصل اسلامک انویسٹمنٹس انکم فنڈ - فیصل اسلامک انویسٹمنٹس انکم پلان I

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے 4.66 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 13.33 فیصد کی مجموعی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ نے بینک پوزیشنز میں 98.62 فیصد سرمایہ کاری کی ہے۔ آگے بڑھنے؛ آپ کا فنڈ ملک کی اقتصادی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرمایہ کاری کے دیگر مواقعوں میں نمائندگی کرے گا۔

#### فنڈ کی کارکردگی

#### فیصل اسلامک فنانشل پلاننگ فنڈ - فیصل شریعہ کی پیٹرنل پریزرویشن پلان III

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے ایف وای ٹی ڈی کی بنیاد پر 1.16 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 3.65 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل کی۔ مدت کے اختتام پر، کیش میں فنڈ کی سرمایہ کاری 99.58 فیصد رہی۔ ایف ایس سی پی پی 3 کے آغاز سے لے کر اب تک 21.12 فیصد کے شیئ مارک ریٹرن کے مقابلے میں 24.45 فیصد کی واپسی ہوئی ہے۔

#### فیصل اسلامک فنانشل پلاننگ فنڈ - فیصل شریعہ کی پیٹرنل پریزرویشن پلان IV

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے ایف وای ٹی ڈی کی بنیاد پر 1.16 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 3.32 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل کی۔ مدت کے اختتام پر، اسلامک منی مارکیٹ سکیم میں فنڈ انویسٹمنٹ ایکسپوزر 88.74 فیصد سے کم ہو کر 67.01 فیصد ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مینیجمنٹ فنڈ کو مختلف اعلیٰ پیداوار والے مقامات پر مختص کرے گا۔ آغاز سے لے کر اب تک ایف سی پی پی 4 نے 9.83 فیصد کی واپسی بمقابلہ شیئ مارک 10.11 فیصد کی واپسی حاصل کی۔

#### فیصل اسلامک فنانشل پلاننگ فنڈ - فیصل شریعہ کی پیٹرنل پریزرویشن پلان V

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے ایف وای ٹی ڈی کی بنیاد پر 0.90 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 2.55 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل کی۔ مدت کے اختتام پر، شرعی منی مارکیٹ سکیم میں فنڈ کی سرمایہ کاری کی نمائندگی 48.47 فیصد سے بڑھ کر 97.62 فیصد ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مینیجمنٹ فنڈ کو مختلف اعلیٰ پیداواری راستوں میں مختص کرے گا۔ ایف ایس سی پی پی 5 کے آغاز سے لے کر اب تک 5.59 فیصد کی واپسی ہوئی ہے بمقابلہ شیئ مارک ریٹرن 9.29 فیصد۔

#### فیصل اسلامک فنانشل پلاننگ فنڈ - فیصل شریعہ کی پیٹرنل پریزرویشن پلان VI

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے ایف وای ٹی ڈی کی بنیاد پر 0.77 فیصد کے شیئ مارک کے مقابلے میں 2.00 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل کیا۔ مدت کے اختتام پر، شرعی منی مارکیٹ سکیم میں فنڈ کی سرمایہ کاری کی نمائندگی 72.60 فیصد سے بڑھ کر 97.85 فیصد ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مینیجمنٹ فنڈ کو مختلف اعلیٰ پیداوار والے مقامات پر

مختص کرے گا۔ ایف ایس سی پی پی 6 کے آغاز سے لے کر اب تک 1.51 فیصد کی واپسی بہت قابلہ شیخ مارک ریٹرن 3.62 فیصد ہے۔

#### فصل اسلامک فنانشل پلاننگ فنڈ - فیصل شریعہ کیپٹل پرزرویشن پلان VII

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے ایف وائی ڈی کی بنیاد پر 0.64 فیصد کے شیخ مارک کے مقابلے میں 1.72 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل کی۔ مدت کے اختتام پر، شریعت کے مطابق ایکویٹی اسکیم میں فنڈز انویسٹمنٹ ایکسیچینج 7.84 فیصد اور شریعت کے مطابق منی مارکیٹ میں 89.51 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ میجمنٹ فنڈز کو مختلف اعلیٰ پیداوار والے مقامات پر مختص کرے گا۔ ایف ایس سی پی پی 7 کے آغاز سے لے کر اب تک 1.73 فیصد کی واپسی بہت قابلہ شیخ مارک ریٹرن 0.99 فیصد ہے۔

#### فصل اسلامک فنانشل پلاننگ فنڈ - فیصل شریعہ کیپٹل پرزرویشن پلان VIII

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے ایف وائی ڈی کی بنیاد پر 0.40 فیصد کے شیخ مارک کے مقابلے میں 2.09 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل کی۔ فنڈ کی سرمایہ کاری نے اسلامک ڈیڈ لیکیڈ ایکویٹی اسکیم میں ایکسیچینج 28.47 فیصد سے کم کر کے 16.68 فیصد کر دیا، جب کہ اسلامک منی مارکیٹ اسکیم میں ایکسیچینج 69.70 فیصد سے بڑھا کر 76.56 فیصد کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ میجمنٹ فنڈز کو مختلف اعلیٰ پیداوار والے مقامات پر مختص کرے گا۔ آغاز سے لے کر اب تک ایف ایس سی پی پی 8 نے 3.65 فیصد کی واپسی بہت قابلہ شیخ مارک کی واپسی 1.68 فیصد کی۔

#### فصل اسلامک فنانشل پلاننگ فنڈ - فیصل شریعہ کیپٹل پرزرویشن پلان IX

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے ایف وائی ڈی کی بنیاد پر 0.55 فیصد کے شیخ مارک کے مقابلے میں 3.16 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل کی۔ مدت کے اختتام پر، ایکسیچینج شریعت کے مطابق منی مارکیٹ اور اسلامک وقف ایکویٹی اسکیم بالترتیب 63.16 فیصد اور 34.81 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ میجمنٹ فنڈز کو مختلف اعلیٰ پیداوار والے مقامات پر مختص کرے گا۔ آئی ایکس ایف ایس سی پی پی کے آغاز سے لے کر اب تک 1.86 فیصد کے شیخ مارک ریٹرن کے مقابلے میں 0.66 فیصد کی واپسی ہوئی۔

#### فصل اسلامک فنانشل پلاننگ فنڈ - فیصل شریعہ کیپٹل پرزرویشن پلان X

زیر جائزہ مدت کے دوران، پلان نے ایف وائی ڈی کی بنیاد پر 0.35 فیصد کے شیخ مارک کے مقابلے میں 2.38 فیصد کی مجموعی واپسی حاصل کی۔ مدت کے اختتام پر، ایکسیچینج شریعت کے مطابق کرنٹری مارکیٹ ستمبر میں 58.66 فیصد رہی۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ میجمنٹ فنڈز کو مختلف اعلیٰ پیداوار والے مقامات پر مختص کرے گا۔ ایف ایس سی پی پی 10 کے آغاز سے لے کر اب تک 0.99 فیصد کے شیخ مارک ریٹرن کے مقابلے میں 2.38 فیصد کی واپسی ہوئی ہے۔

#### رضاکارانہ پیشن سکیم

#### فصل اسلامی پیشن فنڈ - قرض ذیلی فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وائی ڈی کی بنیاد پر 12.35 فیصد کی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ کی نمائش 43.13 فیصد نقد اور 52.50 فیصد حکومت کی حمایت یافتہ اجارہ سکوک میں تھی۔ فی الحال، فنڈ کو کوپن کی اعلیٰ پیداوار کے ساتھ فلوئنگ - ریٹ جی آئی ایس میں لگایا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مجاز سرمایہ کاری کے اندر مختلف راستے تلاش کرتا رہے گا۔

#### فصل اسلامی پیشن فنڈ - ایکویٹی سب فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وائی ڈی کی بنیاد پر 2.37 فیصد کی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ کی نمائش 87.47 فیصد ایکویٹی اور 1.09 فیصد نقد تھی۔ اس وقت فنڈ کی حکمت عملی اچھی کمائی کی نمائش اور کمیشن جزییشن والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مجاز سرمایہ کاری کے اندر مختلف راستے تلاش کرتا رہے گا۔

#### فصل اسلامی پیشن فنڈ - منی مارکیٹ سب فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وائی ڈی کی بنیاد پر 12.19 فیصد کی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ کی نمائش 86.29 فیصد نقد تھی اور 12.12 فیصد اجارہ سکوک۔ فنڈ فی الحال زیادہ تر کوپن کی اعلیٰ پیداوار کے ساتھ فلوئنگ ریٹ جی آئی ایس کی ایک چھوٹی نمائش کے ساتھ نقد رقم کے ذخائر میں رکھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مجاز سرمایہ کاری کے اندر مختلف راستے تلاش کرتا رہے گا۔

#### فصل پیشن فنڈ - ڈیپٹ سب فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وائی ڈی کی بنیاد پر 13.05 فیصد کی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ کی نمائش 17.31 فیصد نقد اور 81.57 فیصد بلز میں تھی۔ فی الحال، اس وقت فنڈ کی حکمت عملی مختصر مدت کے ٹی بلز میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مجاز سرمایہ کاری کے اندر مختلف راستے تلاش کرتا رہے گا۔



### فیصل فنڈ - ایکویٹی سب فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وائی ٹی ڈی کی بنیاد پر 1.78 - فیصد کی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ کی نمائش 82.35 فیصد ایکویٹی اور 4.84 فیصد نقد تھی۔ اس وقت فنڈ کی حکمت عملی اچھی کمائی کی نمائش اور کیش جزیشن والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مجاز سرمایہ کاری کے سیٹ کے اندر مختلف راستے تلاش کرتا رہے گا۔

### فیصل فنڈ - منی مارکیٹ سب فنڈ

زیر جائزہ مدت کے دوران، فنڈ نے ایف وائی ٹی ڈی کی بنیاد پر 13.19 فیصد کی واپسی پوسٹ کی۔ فنڈ کی نمائش 12.45 فیصد نقد اور 87.05 فیصد ٹی بلز میں تھی۔ اس وقت فنڈ کی حکمت عملی متنوع مدت کے ٹی بلز میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے، فنڈ مجاز سرمایہ کاری کے اندر مختلف راستے تلاش کرتا رہے گا۔

### اعتراف

منجسٹ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز یونٹ ہولڈرز کا ان کے قابل قدر تعاون، معاونت اور رہنمائی کے لئے منجسٹ، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کے انتظام پر اعتماد کے لئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بورڈ انتظامیہ کمپنی کے ملازمین اور ڈسٹی کی ان کی لگن اور محنت کے لئے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔

بورڈ اور اس کی طرف سے

ڈائریکٹر

چیف ایگزیکٹو آفیسر

کراچی، 24 اکتوبر 2022

## REPORT OF THE DIRECTORS OF THE MANAGEMENT COMPANY

The Directors of Faysal Asset Management Limited, the Management Company of the following funds are pleased to present the quarterly report on the operations of the Funds under management along with the condensed interim accounts for the quarter ended September 30, 2022.

### EQUITY / ASSET ALLOCATION FUNDS

- Faysal Stock Fund
- Faysal Asset Allocation Fund
- Faysal Islamic Dedicated Equity Fund
- Faysal Financial Value Fund
- Faysal Islamic Stock Fund
- Faysal Islamic Asset Allocation Fund

### FIXED INCOME FUNDS

- Faysal Income & Growth Fund
- Faysal Savings Growth Fund
- Faysal Islamic Savings Growth Fund
- Faysal Money Market Fund
- Faysal Financial Sector Opportunity Fund
- Faysal MTS Fund
- Faysal Halal Amdani Fund
- Faysal Government Securities Fund
- Faysal Islamic Cash Fund
- Faysal Cash Fund
- Faysal Islamic Special Income Fund
  - Faysal Islamic Special Income Plan I
- Faysal Special Savings Fund
  - Faysal Special Savings Plan I
  - Faysal Special Savings Plan II

### FUND OF FUNDS

- Faysal Sharia Planning Fund
  - Faysal Sharia Capital Preservation Plan IX
- Faysal Islamic Financial Planning Fund
  - Faysal Sharia Capital Preservation Plan III
  - Faysal Sharia Capital Preservation Plan IV
  - Faysal Sharia Capital Preservation Plan V
  - Faysal Sharia Capital Preservation Plan VI
  - Faysal Sharia Capital Preservation Plan VII
  - Faysal Sharia Capital Preservation Plan VIII
- Faysal Islamic Financial Planning Fund II
  - Faysal Sharia Capital Preservation Plan X

### VOLUNTARY PENSION SCHEME

- Faysal Islamic Pension Fund
  - Debt Sub Fund
  - Equity Sub Fund
  - Money Market Sub Fund
- Faysal Pension Fund
  - Debt Sub Fund
  - Equity Sub Fund
  - Money Market Sub Fund

## ECONOMIC REVIEW

The Country's external account posted a sharp improvement in 2MFY23 on Year-over-Year (YoY) basis as the Current Account Deficit (CAD) dropped to USD 1.92bn vs. USD 2.37bn in Same-Period-Last-Year (SPLY), a decline of 19% on the back of 11% YoY increase in exports which have remained resilient despite signs of slowdown in major export destinations amidst monetary tightening. Moreover, the imports bill declined by 2% on YoY basis to reduce the overall trade deficit by 11%. Going forward, we expected a sharp curtailment in CAD in FY23 on YoY basis owing to the decline in imports amidst restrictive measures and tight fiscal and monetary policy, however, floods in the country has brought massive destruction to agriculture and livestock which could possibly result in higher import bill (food commodity) and lower exports (textile, rice, and sugar) resulting in upside risk to our estimates

Despite the reduction in CAD, the foreign exchange reserves of the country declined by 5.3% on Quarter-over-Quarter (QoQ) basis to USD 13.59bn in 1QFY23 owing to debt repayments. During the month of September, PKR depreciated by 9.6% to a low of PKR 239.71 / USD amidst expectations of higher food imports due to the destruction in crops post heavy floods in the country. However, the PKR witnessed a sharp recovery of 4.43% to close at PKR 228.45 / USD towards the end of the quarter as Former Finance Minister Ishaq Dar returned to the country and took oath as Finance Minister of the country. Overall, the PKR depreciated by 11.5% in 1QFY23.

Headline inflation has continued to elevate in 1QFY23 on YoY basis to 25.1% vs. 16.15% in 4QFY22 (8.58% in 1QFY22) on the back of higher food, transport, and energy and fuel index. However, on Month-over-Month (MoM) basis, inflation has declined for the first time in the seventh months (Headline inflation for the month of Sep'22 stood at 23.2% on a YoY basis vs. 27.3% in Aug'22). This MoM decline is attributed to a 65% MoM reduction in electricity charges during the month which led to a 17.7% MoM decline in Housing, Water, Electricity & other indices. State Bank of Pakistan in its Monetary Policy Committee (MPC) meeting held in October has guided for FY23 inflation to be higher than its earlier range of 18 - 20%.

In 1QFY23, cumulative tax collection stood at PKR 1,635bn, up by 17% on YoY basis, and surpassed the quarterly target of PKR 1,609bn. Going forward, despite measures aiming for fiscal consolidation, expenditure on smooth rehabilitation of flood-affected areas might result in a fiscal deficit higher than budgetary estimates.

## EQUITY MARKET REVIEW

The KSE-100 Index declined by 0.99% in 1QFY23 to 41,129 points, a decline of 412 points. In 9MCMY22, the decline stood at 7.78% (-3,467 points). The quarter started on a positive note with the completion of the Staff Level Agreement with IMF for the resumption of the Extended Fund Facility (EFF). However, the increase in Policy Rate by the Central bank to 15%, PKR depreciation against the USD amidst declining foreign exchange reserves and political uncertainty, production shut down by corporates due to import restrictions and higher inflationary readings kept the stock market under pressure. Later, the sentiment improved owing to the revival of the IMF program with loan disbursement of USD 1.17bn coupled with improvement in the external account, shunning concerns over elevated headline inflation and political turmoil in the country.

The bull run was soon halted by extended monsoon season coupled with floods in the country as havoc caused by floods was estimated to be at ~USD 30bn as the country faced its worst flood situation in the past 30 years. Officials estimate that more than 800,000 hectares of farmland have been wiped out by the flooding. Pakistan is a major producer of rice and cotton, and both crops have been damaged. Heavy rains and floods also threaten the upcoming wheat planting season, at a time when global wheat supplies are already tight. As a result, it is expected that the import bill might remain elevated to address the food security of the country. The government has revised its growth forecast from 5% presented in budgetary estimates to 2% for FY23.

During the outgoing quarter, Foreigners remained net buyers with a net inflow of USD 16.70bn with major buying concentrated in the Technology, Other, and Oil & Gas Exploration Sector. On the local front, Individuals (USD 22.97mn), Others (USD 10.32mn), and Banks (USD 9.23mn) remained as net buyers whereas Insurance companies (USD 41.44mn) and Mutual Funds (USD 35.22mn) remained as net sellers.

Sector-wise, Technology (763 points), Cement (254 points), and Power Generation (63 points) were the major positive contributors in 1QFY23 while Fertilizers (-404 points), Miscellaneous (-296 points), and Commercial Banks (-268 points) remained as major negative contributors.

Going forward, market momentum would be driven by smooth and swift rehabilitation of flood-affected areas in the country, inflationary pressures, international commodity prices, and political stability in the country.

## MONEY MARKET REVIEW

During 1QFY23, the Government borrowed PKR 4.79trn and PKR 517bn from Treasury Bills and

Pakistan Investment Bonds, respectively. The weighted average yields of T-bills in the last auction held in 1QFY23 on September 21, 2022, clocked in at 15.97%, 15.95% and 15.99% for 3M, 6M and 12M tenors, respectively vs. 15.08%, 14.89% and 14.95% in the auction held on June 29, 2022. The weighted average yields of PIBs in last auction held in 1QFY23 on September 15, 2022 clocked in at 13.89%, 13.31%, and 12.92% for 3Yr, 5Yr, and 10Yr tenors, respectively vs. 13.96%, 13.07% and 13.03% in the auction held on June 23, 2022. Owing to inflationary pressures, the central bank in its MPC held in July'22 increased Policy Rate further by 1.25% to 15% to further cool the overheating economy and contain the current account deficit. However, the Policy Rate was left unchanged in the MPC held in Aug'22 as overall demand in the economy started to moderate coupled with signs of improvement in the external account. As of September 30, 2022, the shorter tenor yields continue to remain higher than the longer term due to higher inflationary estimates in the short run.

## **EQUITY AND ASSET ALLOCATION FUNDS PERFORMANCE**

### **Faysal Asset Allocation Fund**

During the period under review, the fund posted a return of 6.40% against its benchmark return of -0.11% on the FYTD basis. At the close of the period, the fund exposure was 70.25% in equities and had taken an overweight stance relative to KSE-100 on Glass & Ceramics and Oil & Gas Exploration Companies whereas an underweight stance was taken on Cements and Fertilizer companies.

### **Faysal Stock Fund**

During the period under review, the fund posted a cumulative return of 0.51% against its benchmark of -0.99% on the FYTD basis. At the close of the period, the fund exposure was 84.09% in equities. During this period overweight stance relative to KSE-100 was taken on the Insurance, Technology & Communication and Glass & Ceramics whereas, the underweight stance was taken on Cements and Oil & Gas exploration companies.

### **Faysal Islamic Stock Fund**

During the period under review, the fund posted a return of -0.77% against its benchmark of -1.90% on the FYTD basis. The fund exposure was 75.93% in equities and 19.85% in Cash. During this period overweight stance relative to KMI-30 was taken on the Oil & Gas Exploration Companies, Commercial Banks and Technology & Communication sectors whereas, the underweight stance was taken on Fertilizers Companies, Cements and Power Generation & Distribution

### **Faysal Islamic Dedicated Equity Fund**

During the period under review, the fund posted a return of 3.61% against its benchmark return of -1.90%. The fund exposure was 94.39% in equities and the rest remained in Cash & Other receivables. During this period overweight stance relative to KMI-30 was taken on the Technology & Communication, Commercial Banks and Power & Distribution sectors whereas, the underweight stance was taken on Cements and Fertilizer companies.

### **Faysal Financial Value Fund**

During the period under review, the fund posted a return of 3.86% against its benchmark of 1.29% on the FYTD basis. At the close of the period fund exposure was 53.75% in TFCs, 30.72% remained in Cash and 9.09% in T-Bills. Going forward, your fund will continue to explore investment avenues in order to provide competitive returns.

### **Faysal Islamic Asset Allocation Fund**

During the period under review, the fund posted an absolute return of 3.05% relative to its benchmark of 1.16% on FYTD basis. At the end of the period, exposure in Ijarah Sukuk and Sukuk remained 10.75% and 64.41% respectively, whereas the cash position was decreased from 25.71% to 22.21%. Going forward, your fund will continue to explore Islamic investment avenues in order to provide competitive returns.

**FIXED INCOME FUNDS PERFORMANCE****Faysal Money Market Fund**

During the period under review, the fund yielded an annualized return of 14.32% relative to its benchmark of 14.61%. At the close of period, cash allocations stood at 47.52% whereas exposures in T-Bill, Short-term Sukuk and Commercial Paper stood at 19.97%, 20.13% and 9.94% respectively. Going forward, fund management will continue to explore different avenues within the authorized investment.

**Faysal Halal Amdani Fund**

During the period under review, the fund yielded an annualized return of 14.47% versus its benchmark of 5.50% on FYTD basis. At the close of period, cash allocations stood at 70.29% whereas exposures in short term Sukuk stood at 27.35%. Going forward, fund management will be negotiating with Islamic banks for a better daily product rate / TDR placement and will continue to explore different avenues within the authorized investment.

**Faysal Islamic Cash Fund**

During the period under review, the fund yielded a return of 14.84% relative to its benchmarks of 5.50%. Cash allocations maintained at 71.50% with bank whereas exposure in short term Sukuk stood at 26.69%. Going forward, fund management is in negotiations with Islamic banks for a better daily product rate / TDR placement and will continue to explore different avenues within the authorized investment.

**Faysal Financial Sector Opportunity Fund**

During the period under review, the fund yielded an annualized return of 15.59% relative to its benchmark of 15.88%. By end of the period, fund manager-maintained liquidity in cash by almost 98.68%. whereas exposure in TFC / Sukuk stood at 0.11%. Going ahead, we anticipate returns will remain competitive due to consistent high yielding daily product rates.

**Faysal MTS Fund**

During the period under review, the fund yielded an annualized return of 15.38% versus its benchmark of 15.88%. Fund manager increased exposure in MTS backed / Guaranteed Securities and T-Bills while reducing cash due to rising yields. Cash allocations stood at 4.15% while T-Bills represented 5.59% of the fund total assets. Exposure in MTS had been increased from 59.24% to 88.61%. Going forward Fund management will maintain exposure in MTS depending on market conditions.

**Faysal Government Securities Fund**

During the period under review, the fund yielded an annualized return of 12.46% relative to its benchmark of 15.67%. At the close of period, exposure in T bills and cash were maintained by 9.31% & 89.32% respectively. Going forward, the fund will explore other approved investment avenues to enhance yields with a proactive investment strategy.

**Faysal Savings Growth Fund**

During the period under review, the fund yielded an annualized return of 13.33% relative to its benchmark of 15.88%. As a measure of consolidation strategy, the fund manager kept the cash position at 42.84%, whereas exposure in TFC/Sukuks and T-Bill were stood at 23.22% and 29.56% respectively for the period. Going forward, the fund will continue to build exposure in lucrative investment avenues and enhance yields with a proactive trading strategy.

**Faysal Islamic Savings Growth Fund**

During the period under review, the fund yielded an annualized return of 12.30% relative to its benchmark of 4.66%. By the end of the period, exposure in GOP Ijara Sukuk and TFCs/Sukuk remained 34.02% and 33.81% respectively whereas exposure in Other Bank Placements was 16.63%. The fund manager reduced the position in cash to 12.68% from 20.36%. Going forward, your fund will continue to explore Islamic investment avenues in order to provide competitive returns.

**Faysal Income & Growth Fund**

During the period under review, the fund yielded an annualized return of 15.60% relative to its benchmark of 16.22%. By the end of the period, cash allocation was maintained at 92.46% whereas exposure in TFS/Sukuk remained 5.92% for the month of September 2022. Going forward, your fund will strive to maximize returns in a competitive macroeconomic landscape.

**Faysal Cash Fund**

During the period under review, the fund yielded an annualized return of 12.69% relative to its benchmark of 14.61%. By the end of the period, the fund manager decreased exposure in cash position from 25.37% to 0.69%, whereas exposure in Commercial Paper and ST sukuk stood at 41.78% and 53.87% respectively. Going forward, fund management will explore other investment avenues for deployment.

**Faysal Special Savings Fund - Faysal Special Savings Plan I**

During the period under review, the plan posted a cumulative return of 3.99% against its benchmark of 1.23%. The fund remained invested 97.09% in Bank Positions. Going forward; your fund will take exposure in other investment avenues keeping in view the economic position of the country.

**Faysal Special Savings Fund - Faysal Special Savings Plan II**

During the period under review, the plan posted a cumulative return of 2.89% against its benchmark of 0.45%. The fund remained invested 97.50% in Bank Positions. Going forward; your fund will take exposure in other investment avenues keeping in view the economic position of the country.

**Faysal Islamic Special Income Fund - Faysal Islamic Special Income Plan I**

During the period under review, the plan posted a cumulative return of 13.33% against its benchmark of 4.66%. The fund remained invested 98.62% in Bank Positions. Going forward; your fund will take exposure in other investment avenues keeping in view the economic position of the country.

**FUND OF FUNDS PERFORMANCE****Faysal Islamic Financial Planning Fund - Faysal Sharia Capital Preservation Plan III**

During the period under review, the plan yielded a cumulative return of 3.65% on the FYTD basis relative to its benchmark of 1.16%. At the close of period, the fund investment exposure in Cash remained 99.58%. Since Inception FSCPP 3 yielded a return of 24.45% versus Benchmark return of 21.12%.

**Faysal Islamic Financial Planning Fund - Faysal Sharia Capital Preservation Plan IV**

During the period under review, the plan yielded a cumulative return of 3.32% on the FYTD basis relative to its benchmark of 1.16%. At the close of period, the fund investment exposure in Islamic Money Market Scheme was decreased from 88.74% to 67.01%. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenue. Since Inception FSCPP 4 yielded a return of 9.83% versus Benchmark return of 10.11%.

**Faysal Islamic Financial Planning Fund - Faysal Sharia Capital Preservation Plan V**

During the period under review, the plan yielded a cumulative return of 2.55% on the FYTD basis relative to its benchmark of 0.90%. At the close of period, the fund investment exposure in the sharia money market scheme increased from 48.47% to 97.62%. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenues. Since Inception FSCPP 5 yielded a return of 5.59% versus Benchmark return of 9.29%.

**Faysal Islamic Financial Planning Fund - Faysal Sharia Capital Preservation Plan VI**

During the period under review, the plan yielded a cumulative return of 2.00% on the FYTD basis relative to its benchmark of 0.77%. At the close of period, the fund investment exposure in the sharia

-compliant money market increased from 72.60% to 97.85%. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenue. Since Inception FSCPP 6 yielded a return of 1.51% versus Benchmark return of 3.62%.

#### **Faysal Islamic Financial Planning Fund - Faysal Sharia Capital Preservation Plan VII**

During the period under review, the plan yielded a cumulative return of 1.72% on the FYTD basis relative to its benchmark of 0.64%. At the close of period, the fund investment exposure in the sharia-compliant equity scheme stood at 7.84% and sharia-compliant money market stood at 89.51%. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenue. Since Inception FSCPP 7 yielded a return of -1.73% versus Benchmark return of 0.99%.

#### **Faysal Islamic Financial Planning Fund - Faysal Sharia Capital Preservation Plan VIII**

During the period under review, the plan yielded a cumulative return of 2.09% on the FYTD basis relative to its benchmark of 0.40%. The fund investment reduced exposure in Islamic Dedicated Equity Scheme from 28.47% to 16.68%, whereas the exposure was increased in Islamic Money Market Scheme from 69.70% to 76.56%. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenue. Since Inception FSCPP 8 yielded a return of -3.65% versus Benchmark return of -1.68%.

#### **Faysal Sharia Planning Fund - Faysal Sharia Capital Preservation Plan IX**

During the period under review, the plan yielded a cumulative return of 3.16% on the FYTD basis relative to its benchmark of -0.55%. At the close of period, the exposure sharia-compliant money market and Islamic dedicated equity scheme stood at 63.16% and 34.81% respectively. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenue. Since Inception FSCPP IX yielded a return of 0.66% versus Benchmark return of -1.86%.

#### **Faysal Islamic Financial Planning Fund II - Faysal Sharia Capital Preservation Plan X**

During the period under review, the plan yielded a cumulative return of 2.38% on the FYTD basis relative to its benchmark of 0.35%. At the close of period, the exposure sharia-compliant money market stood at 58.66% in September. Going forward, fund management will allocate the funds in different high yielding avenue. Since Inception FSCPP 10 yielded a return of 2.38% versus Benchmark return of 0.99%.

### **VOLUNTARY PENSION SCHEME**

#### **Faysal Islamic Pension Fund - Debt Sub Fund**

During the period under review, the fund posted the return of 12.35% on the FYTD basis. The fund exposure was 43.13% in cash and 52.50% in the Government backed Ijarah Sukuk. Currently, the fund is invested in floating - rate GIS with high coupon yields. Going forward, the fund will continue to explore different avenues within the authorized investment.

#### **Faysal Islamic Pension Fund - Equity Sub Fund**

During the period under review, the fund posted the return of -2.37% on the FYTD basis. The fund exposure was 87.47% in equities and 1.09% in cash. The fund's strategy at present is to invest in companies with good earnings visibility and cash generation. Going forward, the fund will continue to explore different avenues within the authorized investment.

#### **Faysal Islamic Pension Fund - Money Market Sub Fund**

During the period under review, the fund posted the return of 12.19% on the FYTD basis. The fund exposure was 86.29% in cash and 12.12% is Ijara Sukuk. The fund is currently mostly placed in cash deposits with a small exposure to floating-rate GIS with high coupon yield. Going forward, the fund will continue to explore different avenues within the authorized investment.

**Faysal Pension Fund - Debt Sub Fund**

During the period under review, the fund posted the return of 13.05% on the FYTD basis. The fund exposure was 17.31% in cash and 81.57% in the T-Bills. Currently, the fund's strategy at present is to invest in short-term T-Bills. Going forward, the fund will continue to explore different avenues within the authorized investment.

**Faysal Pension Fund - Equity Sub Fund**

During the period under review, the fund posted the return of -1.78% on the FYTD basis. The fund exposure was 82.35% in equities and 4.84% in cash. The fund's strategy at present is to invest in companies with good earnings visibility and cash generation. Going forward, the fund will continue to explore different avenues within the authorized investment set.

**Faysal Pension Fund - Money Market Sub Fund**

During the period under review, the fund posted the return of 13.19% on the FYTD basis. The fund exposure was 12.45% in cash and 87.05% in T-Bills. The fund's strategy at present is to invest in short-term T-Bills. Going forward, the fund will continue to explore different avenues within the authorized investment.

**ACKNOWLEDGEMENT**

The Board of Directors of the Management Company is thankful to unit holders for their confidence on the Management, the Securities and Exchange Commission of Pakistan and the management of Pakistan Stock Exchange Limited for their valuable support, assistance and guidance. The Board also thanks the employees of the Management Company and the Trustee for their dedication and hard work.

For and on behalf of the Board

**Chief Executive Officer**

Karachi: October 24, 2022

**Director**